



28 فروری سے برامپٹن ٹرانزٹ سروس میں لاگو ہونے والی تبدیلیاں

برامپٹن، آن (22 فروری 2022) – بروز پیر 28 فروری 2022 سے، برامپٹن ٹرانزٹ سروس میں کچھ تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارا ٹرانزٹ سسٹم لوگوں کو مؤثر طریقے سے شہر میں ان کی منازل تک پہنچاتا رہے۔

درج ذیل روٹس پر سروس کو دوبارہ بحال کیا جا رہا ہے اور یہ سروس کی ترمیم شدہ سطحوں پر کام کر رہے ہیں:

- 12 گرینوبل
- 13 ایون ڈیل
- 16 ساؤتھ گیٹ
- 17 بوڈین
- 19 فرن فارسٹ
- 25 ایڈن بروک
- 28 وینلیس
- 40 سنٹرل انڈسٹریل
- 55 ایلبرن مارکیل
- 81 مے فیلڈ ویسٹ

درج ذیل روٹس پر سروس کو مکمل طور پر بحال کر دیا جائے گا:

- 505 زوم بوویرد
- 511C زوم سٹیلز
- 2 مین
- 3 مک لافلن
- 4 چنگواکوسی
- 15 برامیلا
- 18 ڈکسی
- 199 UTM ایکسپریس

نوٹ: مندرجہ بالا تبدیلیوں سے سروس کی سطحیں اس نظام الاوقات پر بحال ہو جائیں گی جو جنوری 2022 کے اوائل میں کام کر رہے تھے۔

درج ذیل روٹس تاحکم ثانی منسوخ رہیں گے (بشمول دوران ہفتہ اور اختتام ہفتہ):

- 501A/ 501C زوم کوئین
- 561 زوم کوئین ویسٹ
- 18B Dixie (تاہم، 18 Dixie چلتا رہے گا)
- 21 ہرٹ لیک
- 36 گارڈن بروک (صرف سکول کے اضافی ٹرپ کام کریں گے)
- 58 فنانشل ڈرائیو
- 65 سینٹرز شاپر
- 92 برامیلا GO
- 104 چنگواکوسی ایکسپریس



• 185 ڈکسی ایکسپریس

نظام الاوقات کی مکمل تبدیلیوں اور روٹ کے بارے میں معلومات کے لیے [یہاں کلک کریں](#)۔

اپنے اگلے سفر کا منصوبہ بنانے کے لیے، برامپٹن ٹرانزٹ کانٹیکٹ سنٹر کو 905.874.2999 پر کال کریں۔

وسائل کی دستیابی اور سواریوں کی تعداد پر نظر رکھی جا رہی ہے اور اس کے مطابق برامپٹن ٹرانزٹ جلد از جلد مزید خدمات کو بھی بحال کرے گا۔

مسافروں کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ محفوظ رہیں اور ٹرانزٹ اسٹاپ اور ٹرانزٹ پر دوسروں کی حفاظت میں مدد کریں:

- ہر وقت ماسک کو موزوں طور پر پہنے رکھیں اور اپنے منہ، ٹھوڑی اور ناک کو ڈھانپ کر رکھیں۔
- اپنے پاس ہینڈ سینیٹائزر رکھیں اور اپنے ہاتھوں کو کثرت سے دھوئیں۔
- جہاں تک ممکن ہو سکے جسمانی دوری کا خیال رکھیں۔

ہمارے مسافروں اور عملہ کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ خطرے پر گہری نظر رکھنے کے لیے سٹی آف برامپٹن اپنے شراکت داروں پیل پبلک ہیلتھ، حکومت اونٹاریو اور برامپٹن ایمرجینسی منیجمنٹ آفس کے ساتھ قریبی طور پر اور مل جل کر کام کر رہا ہے۔

باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے www.brampton.ca/COVID19 ملاحظہ کریں یا سروس اپ ڈیٹس کے لیے www.bramptontransit.com ملاحظہ کریں یا [@bramptontransit](https://twitter.com/bramptontransit) کو ٹوئٹر پر فالو کریں۔ کسی قسم کے سوالات برامپٹن ٹرانزٹ کے کانٹیکٹ سنٹر سے 905.874.2999 پر پوچھے جا سکتے ہیں۔

30--

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca